

رجانکاری‌ءازم

سمسٹر: 02

ٹوٹل نمبر: 100

پیپر نمبر: 06

کریڈٹ آؤورز: (3-0)

کورس کوڈ: اے ایل: 605

مول ۽ مراد/Objectives:

ایے کورس ۽ مول ۽ مراد جھل ۽ دیگ بوگنت

- رجانک ۽ بن دپتری پچار ۽ سرپدی دیگ
- رجانک ۽ ارزشت ۽ بستار ۽ سرپدی دیگ
- رجانک ۽ جتائیں تھر ۽ بھر انی بابت ۽ سرپدی دیگ
- رجانک ۽ تکنیک ۽ رہند انی بابت ۽ سرپدی دیگ
- زانشی رجانک ۽ لوٹ ۽ گزرانی بابت ۽ سرپدی دیگ
- ساچشتی رجانک ۽ بابت ۽ سرپدی دیگ

اولی یونٹ: رجانک ۽ بن دپتر ۽ مریبیت

1.1- رجانک ۽ بن دپتری پچار

1.2- رجانک ۽ ارزشت ۽ بستار

1.3- زبان ۽ دیگری ۽ رجانک ۽ کرد

1.4- رجانکاری ۽ ازم

دوئی یونٹ: رجانک ۽ جتائیں تھر ۾ رہند

2.1- رجانک ۽ جتائیں تھر ۽ بھر

2.2- زانشی رجانک

2.3- لہزاںکی رجانک

2.4- تاکاری رجانک

2.5- نکراہی رجانک

سیکی یونٹ: رجانک ۽ تکنیک ۽ مرہند

3.1- رجانک ۽ ازم ۽ آئی تکنیک

3.2- لبزپ لبزی رجانک

3.3- آزاتیں رجانک

3.4- گالریچی رجانک

چارمی یونٹ: رجانک، بابت، حیال، لیکہ

4.1- کوہنیں ویدیائی {ویدک} لیکہ

4.2- برابری، لیکہ

4.3- تھی دروشم، لیکہ

4.4- ربیدگی لیکہ

4.5- ڈی کنفرنٹ کشن لیکہ

آسری زانت / Learning Outcomes:

ایے کورس، وانینگ، نوربر جہل، دا ٹکنیک، سر حالاں سرپد بنت

- رجانک، بن دپتری پچار، آشنا بنت
- رجانک، جتنا کمیں ارزشت، علستار، بابت، سرپد بنت
- رجانک، ٹکنیک، ہند، سرپد بنت
- رجانک، جتنا جانا کیں تھر، بھر انی بابت، سرپد بنت
- رجانک، بابت، جانا کیں حیال، لیکھاں سرپد بنت

لیکسٹ بکس:

1- بلوچی ردانک، نوکیں سفر

طاہر حکیم

بلوچی لبزاں کی دیوان

2- فن ترجمہ کاری

محمد صدر رشید

مقدارہ قومی زبان، اسلام آباد

ریفارنس بکس:

1- مغرب سے نشی ترجم

ڈاکٹر مرزا حامد بیگ

مقدارہ قومی زبان، اسلام آباد

2- ترجمہ کاری

ڈاکٹر فخرہ نورین

ادارہ تحقیقات اردو، اسلام آباد

اعجاز رائی

مقدارہ قومی زبان، اسلام آباد

3- اردو میں ترجمے کے مسائل